

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 وَذَرْنَا الْفِرْنَانَ الَّذِیْ هُوَ اَنْزَلْنَاهُ رِجْرًا وَلَیْسَ لَکُم مِّنْهُ اَنْزِلٌ اِلَّا
 اَنْزِلَ لَکُمُ الْبَحْرُ مَلْمُوحًا

قرآن پاک کی معنوی تحریف اور فرقہ وادیت کی نحوست سے محفوظ اُردو ترجمہ



عربی لغت کے عین مطابق بیک وقت لفظی اور باحاورہ آسان ترین اُردو ترجمہ

ترجمہ
 پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ

ضیاء المشرق پبلی کیشنز
 لاہور - کراچی
 پاکستان

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ

اور (حرام ہیں) خاوندوں والی عورتیں مگر (کافروں کی وہ عورتیں) جو تمہارے ملک میں آجائیں، فرض کیا ہے

اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَحَلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

اللہ نے (ان احکام کو) تم پر، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لئے ماسوا ان کے تاکہ تم طلب کرو (ان کو) اپنے مالوں کے ذریعے

مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَعْتَمَرْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

پاکدامن بنتے ہوئے نہ زنا کار بنتے ہوئے، پس جو تم نے لطف اٹھایا ہے ان سے

فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا

تو دو ان کو ان کے مہر جو مقرر ہیں، اور کوئی گناہ نہیں تم پر جس چیز پر تم آپس میں

تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

راخی ہو جاؤ مقرر کئے ہوئے مہر کے بعد، بے شک اللہ تعالیٰ علیم و

حَكِيمًا ﴿۲۳﴾ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ

حکیم ہے۔ اور جو نہ رکھتا ہو تم میں سے اس کی طاقت کہ نکاح کرے آزاد مسلمان عورتوں سے

الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ مَنْ فَتَيْتُمْهُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

تو وہ نکاح کرے جو تمہارے قبضہ میں ہیں تمہاری کنیزیں جو مسلمان ہیں،

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ فَانْكَحُوهُنَّ

اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان (کی کیفیت) کو، بعض تمہارا بعض (کی جنس) سے ہے، تو نکاح کر لو

بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ مُحْصَنَاتٍ

ان سے ان کے سرپرستوں کی اجازت سے اور دو ان کو مہراں کے دستور کے موافق (تاکہ نکاح سے) وہ پاکدامن بن جائیں

غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ ۚ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ

نہ (اعلانیہ) زنا کار اور نہ بنانے والی ہوں پوشیدہ دوست، اور جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائیں پھر اگر

أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ ۚ مِنَ

وہ ارتکاب کریں بدکاری کا، تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے

الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا

لئے ہے، یہ (لوٹنیوں سے نکاح کی اجازت) اس کے لئے ہے جسے خطرہ ہو بدکاری میں مبتلا ہونے کا تم سے، اور تمہارا صبر کرنا

خَيْرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾ يَرْيِدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ

بہتر ہے تمہارے لئے، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کھول کر بیان کر دے (اپنے احکام) تمہارے لئے اور

يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ

چلائے تم کو ان (کامیاب لوگوں) کی راہوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، اور اللہ تعالیٰ

عَلَيْكُمْ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَاللَّهُ يَرْيِدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ

سب کچھ جاننے والا، بڑا دانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو

يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ يَرْيِدُ اللَّهُ أَنْ

پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشوں کی کہ تم (حق سے) بالکل منہ موڑ لو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ

يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ہلکا کرے تم سے (پابندیوں کا بوجھ)، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور۔ اے ایمان والو!

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقہ سے مگر یہ کہ تجارت ہو

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

تمہاری باہمی رضا مندی سے۔ اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑی

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدْوًا ظَلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّبُ

مہربانی فرمائے والا ہے۔ اور جو شخص کرے گا یوں سرکشی اور ظلم سے تو ڈال دیں گے ہم اسے

كَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ إِنْ تَحْتَبُوا كَبِيرًا

آگ میں، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے کاموں سے

تَهْفُونَ عَنْهُ تُكْفَرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

روگاہیا ہے تمہیں جن سے تو ہم محو کر دیں گے تمہارے (نامہ اعمال) سے تمہاری برائیاں اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ میں۔

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ

اور نہ آرزو کرو اس چیز کی بزرگی دی ہے اللہ نے جس سے تمہارے بعض کو بعض پر، مردوں کے لئے

نُصِيبُ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نُصِيبُ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ط

حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لئے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا،

وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۳۲

اور مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل (و کرم) کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ط

اور ہر ایک کے لئے بنادئے ہیں ہم نے وارث اس مال سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اور

الذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَاتُومُوهُمْ نَصِيبُهُمُ إِنْ اللَّهُ كَانَ

وہ لوگ جن سے بندھ چکا ہے تمہارا عہد و پیمانہ تو دو انہیں ان کا حصہ، بے شک اللہ تعالیٰ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۳۳ الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَىٰ النِّسَاءِ بِمَا

ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ مرد محافظ و نگران ہیں عورتوں پر اس وجہ سے

فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ط

کہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر اور اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے (عورتوں کی ضرورت و آرام کے) لئے،

وَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي

تو نیک عورتیں اطاعت گزار ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں (مردوں کی) غیر حاضری میں اللہ کی حفاظت سے، اور وہ عورتیں

تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

اندیشہ ہو تمہیں جن کی نافرمانی کا تو (پہلے نرمی سے) انہیں سمجھاؤ اور (پھر) الگ کر دو انہیں خواب گاہوں سے

وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ط

اور (پھر بھی باز نہ آئیں تو) مارو انہیں، پھر اگر وہ اطاعت کرنے لگیں تمہاری تو نہ تلاش کرو ان پر (ظلم کرنے کی) راہ، یقیناً

اللَّهُ كَانَ عَلَيَّا كَبِيرًا ۝۳۴ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا

اللہ تعالیٰ (عظمت و کبریائی میں) سب سے بالاسب سے بڑا ہے۔ اور اگر خوف کرو تم ناچاقی کا ان کے درمیان تو مقرر کرو ایک

حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

بچ مرد کے کنبہ سے اور ایک بچ عورت کے کنبہ سے، اگر وہ دونوں (بچ) ارادہ کریں گے صلح کرانے کا

يُوفِقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ط إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَيَّا خَيْرًا ۝۳۵ وَاعْبُدُوا

تو موافقت پیدا کرو گا اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان بیشک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، ہر بات سے خبردار ہے۔ اور عبادت کرو

اللَّهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي

اللہ تعالیٰ کی اور نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی کو اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو نیز

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ

رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور ٲڑوسی جو رشتہ دار ہے اور ٲڑوسی جو رشتہ دار

الْجَنَبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنَبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ

نہیں اور ہم مجلس اور مسافر اور جو (لوٹھی غلام) تمہارے قبضہ

أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ فَحْتًا أَوْ فَحْورًا ۗ الَّذِينَ

میں ہیں (ان سب سے حسن سلوک کرو)، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو جو مغرور ہو پھر کرنے والا ہو جو خود بھی

يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ

بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا اور چھپاتے ہیں جو عطا فرمایا ہے انہیں

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۗ وَ

اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل (و کرم) سے، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب - اور

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لئے اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر

وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۗ

اور نہ روز قیامت پر، اور وہ (بدقسمت) ہو جائے شیطان جس کا ساتھی پس وہ بہت برا ساتھی ہے -

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوا مِمَّا

اور کیا نقصان ہوتا ان کا اگر ایمان لاتے اللہ پر اور روز آخرت پر اور خرچ کرتے اس سے جو

رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ

دیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے - بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مَنْ

ذرہ برابر بھی، (بلکہ) اگر ہو معمولی سی نیکی تو دوگنا کر دیتا ہے اسے اور دیتا ہے

لِدُنِّهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۗ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ

اپنے پاس سے اجر عظیم - تو کیا حال ہوگا (ان نافرمانوں کا) جب ہم لے آئیں گے ہر امت سے ایک گواہ

وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۗ يَوْمَئِذٍ يُودُّ الَّذِينَ

اور (اے حبیب!) ہم لے آئیں گے آپ کو ان سب پر گواہ - اس روز تمنا کریں گے وہ

كُفْرًا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ

جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی کہ کاش! (انہیں دبا کر) ہموار کر دی جاتی ان پر زمین، اور نہ چھپاسکیں گے

اللَّهُ حَدِيثًا عَرَبِيًّا ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ

اللہ سے کوئی بات - اے ایمان والو! نہ قریب جاؤ نماز کے جب کہ تم

سُكْرًا حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي

نشہ کی حالت میں ہو یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو (زبان سے) کہتے ہو اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم

سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

سفر کر رہے ہو یہاں تک کہ تم غسل کرلو، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَسْتُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَلَمْ

یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے یا ہاتھ لگایا ہو تم نے (اپنی) عورتوں کو پھر نہ

تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ

پاؤ تم پانی تو (اس صورت میں) تیمم کرلو پاک مٹی سے اور (اس کا طریقہ یہ ہے کہ) ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر

وَأَيْدِيكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ۗ ۝۲۳

اور اپنے بازوؤں پر، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، بڑا بخشنے والا ہے - کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف

أَوْ تَوَانِصِيًّا مِّنَ الْكِتَابِ يَشُدُّونَ الصَّلَاةَ وَيُرِيدُونَ

جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے وہ مول لے رہے ہیں گمراہی کو اور (یہ بھی) چاہتے ہیں

أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

کہ بہک جاؤ تم بھی راہ راست سے - اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے (تمہارے لئے) اللہ

وَلِيًّا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ۗ ۝۲۴

حمایتی اور کافی ہے (تمہارے لئے) اللہ تعالیٰ مددگار - کچھ لوگ جو یہودی ہیں پھیر دیتے ہیں (اللہ کے)

الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعٍ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعُ

کلام کو اس کی اصلی جگہوں سے اور کہتے ہیں: ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی اور (کہتے ہیں) سنو تم

غَيْرَ مُسْمِعٍ ۚ وَرَاعِنَا لَيْئًا بِأَسْنَتِهِمْ وَطَعَنَّا فِي الدِّينِ وَلَوْ

نہ سنائے جاؤ اور (کہتے ہیں) ”سراعنا“ بل دیتے ہوئے اپنی زبانوں کو اور طعنہ زنی کرتے ہوئے دین میں، اور اگر

أَلَهُمْ قَالُوا سَبَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَانظُرْنَا لَكَ خَيْرًا

وہ (یوں) کہتے ہم نے (آپ کا ارشاد) سنا اور (اسے) مان لیا اور (ہماری عرض) سنے اور نگاہ (کرم) فرمائیے ہم پر تو ہوتا بہت بہتر

لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا

ان کے لئے اور بہت درست لیکن (اپنی رحمت سے) دور کر دیا انہیں اللہ نے بوجہ ان کے کفر کے پس نہیں ایمان لائیں گے مگر

قَلِيلًا ۲۶ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ إِمْثًا إِذْ نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا

تھوڑے سے - اے وہ لوگو جنہیں دی گئی کتاب ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل فرمائی ہم نے تاکہ تصدیق کرے

لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى

اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے (ایمان لاؤ) اس سے پہلے کہ ہم مسخ کر دیں چہرے پھر پھیر دیں انہیں

أَذْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعْنَا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ

پشتوں کی طرف یا لعنت کریں ان پر جس طرح ہم نے لعنت کی سبت والوں پر، اور اللہ کا حکم پورا

مَفْعُولًا ۲۷ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ

ہو کر رہتا ہے - بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ اور بخش دیتا ہے جو اس کے علاوہ ہے

ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا

جس کو چاہتا ہے، اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ، وہ ارتکاب کرتا ہے گناہ

عَظِيمًا ۲۸ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنفُسَهُمْ بِاللَّهِ يَزْعُمُونَ

عظیم کا - کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو پاکباز بتلاتے ہیں اپنے آپ کو، بلکہ (یہ تو) اللہ (کی شان ہے کہ) پاکباز بناوے

مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُلْمُونَ فَتِيلًا ۲۹ أَنْظُرْ كَيْفَ يَقْتَرُونَ عَلَى

جسے چاہے اور وہ نہیں ظلم کئے جائیں گے کھجور کی گٹھلی کے ریشہ کے برابر - دیکھئے کیسے گھڑتے ہیں

اللَّهِ الْكُذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ۳۰ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا

اللہ پر جھوٹ، اور کافی ہے (انہیں رسوا کرنے کے لئے) یہ کھلا گناہ - کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف

نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْحِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَ

جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے وہ (اب) اعتقاد رکھنے لگے ہیں جبت اور طاغوت پر اور

يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا

کہتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کافر زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان سے جو ایمان لائے

سَبِيلًا ۵۱) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ

ہیں - یہی وہ (بد نصیب) ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جس پر لعنت بھیجے اللہ تعالیٰ

فَلَنْ يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۵۲) أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا

تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کا کوئی مددگار - کیا ان کے لئے کوئی حصہ ہے حکومت میں اگر ایسا ہوتا

لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۵۳) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا

تو نہ دیتے یہ لوگوں کو تل برابر، کیا حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس نعمت پر جو

آتاهمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَ

عطا فرمائی ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے (وہ حسد کی آگ میں جلا کر لیں)، ہم نے تو رحمت فرمادی ہے ابراہیم کے گھرانے کو کتاب اور

الْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۵۴) فَبِمَهُمْ مِّنْ أَمْنٍ بِهٖ وَ

حکمت اور عنایت فرمادی ہے انہیں عظیم الشان سلطنت - تو ان سے کوئی ایمان لائے اس کے ساتھ اور

مِنْهُمْ مَّنْ صَدَّعْنَهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۵۵) إِنَّ الَّذِينَ

کسی نے منہ پھیر لیا اس سے، اور کافی ہے (انہیں جلانے کے لئے) جہنم کی دہکتی ہوئی آگ - بے شک جنہوں نے

كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا ۵۶) كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ

انکار کیا ہماری آیتوں کا ہم ڈال دیں گے انہیں آگ میں، جب کبھی پک جائیں گی ان کی کھالیں

بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

تو بدل کر دے دیں گے ہم انہیں کھالیں دوسری تاکہ وہ (مسلل) چکھتے رہیں عذاب کو، بیشک اللہ تعالیٰ

عَزِيزًا حَكِيمًا ۵۷) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ

غالب ہے، حکمت والا ہے - اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کئے عنقریب ہم داخل کریں گے انہیں

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۵۸) لَهُمْ

باغوں میں رواں ہیں جن کے نیچے ندیاں ہمیشہ رہیں گے ان میں تاابد، ان کے لئے

فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلِيلًا ۵۹) إِنَّ اللَّهَ

ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم داخل کریں گے انہیں گھنے سایہ میں بے شک اللہ تعالیٰ

يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْنَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

حکم فرماتا ہے تمہیں کہ (ان کے) سپرد کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا بِعِظَمِهِ طَارِتٌ

تو فیصلہ کرو انصاف سے ، بیشک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں، بے شک

اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿۵۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ

اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی

وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

اور اطاعت کرو (اپنے ذیشان) رسول کی اور حاکموں کی جو تم میں سے ہوں، پھر اگر جھگڑنے لگو

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

تم کسی چیز میں تو لوٹادو اسے اللہ اور (اپنے) رسول (کے فرمان) کی طرف اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿۵۹﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى

اور روز قیامت پر، یہی بہتر ہے اور بہت اچھا ہے اس کا انجام۔ کیا تمہیں دیکھا آپ نے ان کی طرف

الَّذِينَ يَدْعُونَ أَنَّهُم آمِنُونَ إِنَّا نُنزِلُ إِلَيْكَ وَمَا نُنزِلُ

جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس (کتاب) کے ساتھ جو اتاری گئی آپ کی طرف اور جو اتارا گیا

مِنْ قِبَلِكِ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ

آپ سے پہلے (اس کے باوجود) چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرانے کے لئے (اپنے مقدمات) طاغوت کے پاس لے جائیں حالانکہ

أَمْرًا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿۶۰﴾

انہیں حکم دیا گیا تھا کہ انکار کریں طاغوت کا، اور چاہتا ہے شیطان کہ بہکادے انہیں بہت دور تک۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ

اور جب کہا جائے انہیں کہ آؤ اس (کتاب) کی طرف جو اتاری ہے اللہ نے اور (آؤ) رسول (پاک) کی طرف تو آپ دیکھیں گے

الْمُتَّقِينَ يُصَدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿۶۱﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابْتُمُ

منافقوں کو کہ منہ موڑ لیتے ہیں آپ سے روگردانی کرتے ہوئے۔ پس کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں

مُصِيبَةٌ مِمَّا قَدْ مَتَّ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ

مصیبت بوجہ ان (کرتوتوں) کے جو آگے بھیجے ہیں ان کے ہاتھوں نے پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی

إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحَسَانًا وَتَوَفَّقْنَا ﴿۶۲﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا

(کہتے ہیں بخدا) نہیں قصد کیا تھا ہم نے مگر بھلائی اور باہمی مصالحت کا۔ یہ لوگ ہیں خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو

فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ دَعْوَتَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ

کچھ ان کے دلوں میں ہے، (اے حبیب!) چشم پوشی فرمائیے ان سے اور نصیحت کرتے رہئے انہیں اور کہئے انہیں تنہائی میں

قَوْلًا بَلِيغًا ۹۳ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

ایسی بات جو موثر ہو۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لئے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے،

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ

اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھے تھے اپنے آپ پر حاضر ہوتے آپ کے پاس اور مغفرت طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے نیز مغفرت طلب کرتا

لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۹۴ فَلَا وَرَبِّكَ لَا

ان کے لئے رسول (کریم) بھی تو وہ ضرور پاتے اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ پس (اے مصطفیٰ) تیرے رب کی قسم یہ

يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُخْرَجُوا فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

لوگ مؤمن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حاکم بنائیں آپ کو ہر اس جھگڑے میں جو پھوٹ پڑا ان کے درمیان پھر نہ پائیں اپنے نفسوں میں

أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيَسْأَلُوا تَسْلِيمًا ۹۵ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا

تنگی اس سے جو فیصلہ آپ نے کیا اور تسلیم کر لیں دل و جان سے۔ اور اگر ہم فرض کر دیتے

عَلَيْهِمْ أَنْ أَقْتُلُوا أَنْفُسَهُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا

ان پر کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے اپنے گھروں سے تو نہ بجالاتے اس کو مگر

قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

چند آدمی ان میں سے، اور اگر وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہوتا بہتر ان کے لئے

وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ۙ وَإِذْ آتَيْنَهُمْ مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۙ

اور اس طرح سختی سے (اللہ کا حکام پر) ثابت قدم ہوجاتے، تو اس وقت ہم بھی عطا فرماتے انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم،

وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۙ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ

اور ضرور پہنچاتے انہیں سیدھے راستہ تک۔ اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور (اس کے) رسول کی

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ

تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء اور

الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۙ

صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی

ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلَيْكُمْ وَيَأْتِيهَا الدِّينَ

یہ (محض) فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا - اے ایمان

أَمْوَاخُذًا وَاحِدًا رُكْمًا فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا ۚ وَإِنَّ

والو! ہوشیار رہو پھر (وقت آجائے تو) نکلو ٹولیاں بن کر یا نکلو سب مل کر - اور بے شک

مِنْكُمْ لَسَنَ لَيَبْطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مَصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ

تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے، پھر اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت تو وہ کہے احسان فرمایا ہے

اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ۚ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ

اللہ نے مجھ پر کہ میں نہیں تھا ان کے ہمراہ (جنگ میں) حاضر - اور اگر ملے تمہیں فضل (فتح اور مال غنیمت)

مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ فَوَدَّةٌ لِيَئْتَنِي

اللہ کی مہربانی سے تو ضرور کہے جیسے نہیں تھی تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی کاش میں بھی

كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۚ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ہوتا ان کے ہمراہ تو حاصل کرتا بڑی کامیابی - پس چاہئے کہ لڑا کریں

الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي

اللہ کی راہ میں (صرف) وہ لوگ جنہوں نے بیچ دی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، اور جو شخص لڑے

سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۚ

اللہ کی راہ میں پھر (خواہ) مارا جائے یا غالب آئے تو (دونوں حالتوں میں) ہم دیں گے اسے اجر عظیم -

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ

اور کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جنگ نہیں کرتے ہو راہ خدا میں حالانکہ کئی بے بس

الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

مرد اور عورتیں اور بچے ایسے بھی ہیں جو (ظلم سے نکل آکر) عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب نکال ہمیں

مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۗ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ

اس بستی سے ظالم ہیں جس کے رہنے والے، اور بنادے ہمارے لئے اپنے پاس سے

وَلِيًّا ۗ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۗ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ

دوست اور بنادے ہمارے لئے اپنے پاس سے کوئی مددگار - جو ایمان لائے ہیں وہ جنگ کرتے ہیں

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

اللہ کی راہ میں ، اور جو کافر ہیں وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کی راہ میں

فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ٤٧

تو (اے ایمان والو) لڑو شیطان کے حامیوں سے ، بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں جب کہا گیا کہ روکو اپنے ہاتھوں کو اور قائم کرو نماز

وَأَتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ

اور ادا کرو زکوٰۃ (ان باتوں کو تو مان لیا) ، پھر جب فرض کیا گیا ان پر جہاد تب ایک گروہ ان میں سے

يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا

ڈرنے لگ گیا لوگوں سے جیسے ڈرا جاتا ہے خدا سے یا اس سے بھی زیادہ ، اور کہنے لگے : اے ہمارے پروردگار!

لِمَ كُتِبَتْ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْ أَخَّرْنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ

کیوں فرض کر دیا تو نے ہم پر جہاد ، (اور) کیوں نہ مہلت دی تو نے ہمیں توڑی مدت تک ، (اے ترجمان حقیقت! نہیں) کہو

مَتَاعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ

دنیا کا سامان بہت قلیل ہے ، اور آخرت زیادہ بہتر ہے اس کے لئے جو تقویٰ اختیار کئے ہے۔ اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر

فَتَبَيَّلًا ٤٨ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ رَبُّكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بَرٍّ

مجبور کی کھلی کے ریشے کے برابر۔ جہاں کہیں تم ہو گے آئے گی تمہیں موت اگرچہ (پناہ گزین ہو) تم مضبوط

مُسْبِيحَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

قلعوں میں ، اور اگر پہنچے انہیں کوئی بھلائی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے ،

وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ

اور اگر پہنچے انہیں کوئی تکلیف تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے ، (اے میرے رسول) آپ فرمائیے سب

مَنْ عِنْدَ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ

اللہ کی طرف سے ہے ، تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں

حَدِيثًا ٤٩ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ

جائے - جو پہنچے آپ کو بھلائی سو وہ اللہ کی طرف سے ہے ، اور جو پہنچے آپ کو

مَنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَ

تکلیف سو وہ آپ کی طرف سے ہے، اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر، اور

كُفِيَ بِاللَّهِ شَرِيحًا ۷۹ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ

کافی ہے اللہ تعالیٰ (آپ کی رسالت کا) گواہ۔ جس نے اطاعت کی رسول کی تو یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی، اور

مَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۸۰ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ

جس نے منہ پھیرا تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان کا پاسمان بنا کر۔ اور کہتے ہیں ہم نے حکم مان لیا،

فَإِذَا بَرِزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي

اور جب باہر نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تو رات بھر مشورہ کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے اس کے برعکس

تَقُولُ ۷۹ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ

جو آپ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ راتوں کو سوچا کرتے ہیں، پس رخ (انور) موڑ لیجئے ان سے اور بھروسہ کیجئے

اللَّهُ وَكُفِيَ بِاللَّهِ وَكَيْلًا ۸۱ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنُ وَلَوْ كَانَ

اللہ پر، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ (آپ کا) کارساز۔ تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور (اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ) اگر وہ

مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۸۲ وَإِذَا جَاءَهُمْ

غیر اللہ کی طرف سے (بھیجا گیا) ہوتا تو ضرور پاتے اس میں اختلاف کثیر۔ اور جب آتی ہے

أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ

ان کے پاس کوئی بات اہمیتان یا خوف کی تو چرچا کرنے لگتے ہیں اس کا اور اگر لوٹا دیتے اسے رسول (کریم) کی طرف

وَأِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّ الَّذِينَ يُسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ

اور باقتدار لوگوں کی طرف اپنی جماعت سے تو جان لیتے اس خبر (کی حقیقت) کو وہ لوگ جو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں بات کا ان میں سے،

لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا

اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور (نہ ہوتی) اس کی رحمت تو ضرور تم اتباع کرنے لگتے شیطان کا سوائے

قَلِيلًا ۸۳ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضْ

چند آدمیوں کے۔ (اے محبوب!) جہاد کرو اللہ کی راہ میں، نہ تکلیف دی جائے گی آپ کو سوائے اپنی ذات کے اور ابھاریں آپ

الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ بِأَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ

ایمان والوں کو (جہاد پر)، عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ روک دے زور ان لوگوں کا جو کفر کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ

أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ۸۳) مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ

کی گرفت بہت سخت ہے نیز وہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جو کرے گا سفارش اچھی ہوگا اس کا

لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَكَيْفٍ ۙ

حصہ اس میں سے، اور جو کرے گا سفارش بری تو ہوگا اس کے لئے بوجھ

مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ۙ ۸۵) وَإِذْ أَحْبَبْتُمْ بَيِّنَةً

اس سے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب سلام دیا جائے تمہیں کسی لفظ دعا سے

فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

توسلام دو تم ایسے لفظ سے جو بہتر ہو اس سے یا (کم از کم) دوہرا دو وہی لفظ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا

حَسِيبًا ۙ ۸۶) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُجْمَعُ عَنكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَرْبَابٍ

حساب لینے والا ہے۔ اللہ نہیں کوئی معبود بغیر اس کے، وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن نہیں ذرا شک

فِيهِ ۖ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۙ ۸۷) فَأَلَّكُمْ فِي السُّفْقِينَ

اس (کے آنے) میں، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کہنے میں۔ سو کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں (تم)

فَتَتَيْنَ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتْرِيدُونَ ۚ أَنْ تَهْدُوا مَنْ

دو گروہ بن گئے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے انہیں بوجہ ان کرتوتوں کے جو انہوں نے کئے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے

أَضَلَّ اللَّهُ ۙ وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَلَنْ يُضِلَّهُ سَبِيلًا ۙ ۸۸) وَذُؤَالُو

گمراہ کر دیا اللہ نے، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لئے (ہدایت کا) راستہ۔ وہ دوست رکھتے ہیں اگر

تَكْفُرُونَ ۙ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۙ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ

تم بھی کفر کرنے لگو جیسے انہوں نے کفر کیا تاکہ تم سب یکساں ہو جاؤ پس نہ بناؤ تم ان سے اپنے دوست

حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۙ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُواهُمْ وَ

یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں، پس اگر وہ (ہجرت سے) منہ موڑیں تو پکڑ لو انہیں اور

أَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۙ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ دَلِيًّا وَلَا

قتل کرو انہیں جہاں کہیں پاؤ ان کو اور نہ بناؤ ان سے (کسی کو) اپنا دوست اور نہ

نَصِيرًا ۙ ۸۹) إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ

مددگار، مگر ان کو (قتل نہ کرو) جو تعلق رکھتے ہیں اس قوم سے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے

أَوْ جَاءَ وَكُمْ حَصْرَتٌ صُدُّوهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ

یا آگے ہوں تمہارے پاس اس حال میں کہ تنگ ہو چکے ہوں ان کے سینے کہ جنگ کریں تم سے یا جنگ کریں اپنی قوم سے ،

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ

اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو مسلط کر دیتا انہیں تم پر تو وہ ضرور لڑتے تم سے ، پھر اگر وہ کنارہ کر لیں تم سے اور نہ

يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَائِمُ السَّلَامُ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ

جنگ کریں تمہارے ساتھ اور بھیجیں تمہاری طرف صلح (کا پیغام) تو نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ان پر

سَبِيلًا ۹۰ سَيُجَادُونَ الْآخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا

(زیادتی کرنی) راہ - تم پاؤ گے چند اور لوگ جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور امن میں رہیں

قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارِدٍ وَالْإِنْفِتْنَةَ أُرْكَسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ

اپنی قوم سے ، (لیکن) جب کبھی پھیرے جاتے ہیں فتنہ کی طرف تو منہ کے بل گر پڑتے ہیں اس میں سو ، اگر نہ کنارہ کریں تم سے

وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيُكْفُوا أَيِّدِيَهُمْ فَنذَرُوكُمْ وَاقْتُلُوكُمْ

یا نہ بھیجیں تمہاری طرف صلح (کا پیغام) اور نہ روک لیں اپنے ہاتھ تو پکڑلو انہیں اور قتل کرو انہیں

حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۹۱

جہاں تم پاؤ انہیں ، اور یہی لوگ ہیں کہ دیا ہے ہم نے تمہیں ان پر کھلا اختیار -

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ

اور نہیں (جائز) کسی مومن کے لئے کہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے ، اور جس نے قتل کیا

مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا

کسی مومن کو غلطی سے تو (اس کی سزا یہ ہے کہ) آزاد کرے مسلمان غلام اور خون بہا ادا کرے مقتول کے گھر والوں کو

إِلَّا أَنْ يَصِدَّ قَوْمًا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُمْ مَوْفُونَ

مگر یہ کہ وہ خود ہی (خون بہا) معاف کر دیں ، پھر اگر ہو (مقتول) اس قوم سے جو دشمن ہے تمہاری لیکن وہ (مقتول) خود مومن ہو

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ

تو (قاتل) آزاد کرے ایک مسلمان غلام ، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ ہو چکا ہے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان

مِيتَانٍ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ

معاہدہ (قاتل) خون بہا دے اس کے گھر والوں کو اور آزاد کرے ایک مسلمان غلام ، تو جو

لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَهُ شَهْرَيْنِ مُتْتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ

شخص غلام نہ پاسکے تو روزے رکھے دو ماہ لگاتار، (اس گناہ کی) توبہ اللہ کی طرف سے (یہی مقرر ہے)، اور ہے

اللَّهُ عَلَيْهِ حَاكِمًا ۙ وَمَن يَقتُلْ مَوْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ

اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا - اور جو شخص قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا

جہنم خلدًا فیہا وَعِزْبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا

جہنم ہے ہمیشہ رہے گا اس میں اور غضبناک ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر اور اپنی رحمت سے دور کر دے گا اسے اور تیار کر رکھا ہے اس نے اس کے لئے عذاب

عَظِيمًا ۙ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

عظیم - اے اہل ایمان جب تم سفر پر نکلو اللہ کی راہ میں (جہاد کے لئے)

فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا إِنَّمَا أَلقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۗ

تو خوب تحقیق کر لو اور نہ کہو اسے جو بھیجتا ہے تم پر سلام کہ تم مومن نہیں ہو،

تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ ۗ

تم تلاش کرتے ہو سامان دنیوی زندگی کا، پس اللہ کے پاس بہت نعمتیں ہیں (وہ ہمیں غنی کر دے گا)،

كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمِنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِتْنَةٌ وَإِن كَانَ

ایسے ہی (کافر) تم بھی تھے اس سے پہلے پھر احسان فرمایا اللہ نے تم پر تو خوب تحقیق کر لیا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۙ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اس سے جو کچھ تم کرتے ہو خبردار ہے - نہیں برابر ہو سکتے (گھروں میں) بیٹھے والے مسلمان

غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ

سوائے معذوروں کے اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں

وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى

اور اپنی جانوں سے بزرگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے

الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۗ وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ ۗ وَفَضَّلَ اللَّهُ

(گھروں میں) بیٹھ رہنے والوں پر درجہ میں، اور سب سے وعدہ فرمایا ہے اللہ نے بھلائی کا، لیکن فضیلت دی ہے اللہ نے

الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۙ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَ

جہاد کرنے والوں کو بیٹھے والوں پر اجر عظیم سے، (ان کے لئے) بلند درجے ہیں اللہ (کی جناب) سے اور

مَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۹۸ إِنَّ الدِّينَ

(نوید) بخشش اور رحمت ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ بے شک وہ لوگ کہ

تَوْفَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا

تجس کیا ان (کی رودوں) فرشتوں نے اس حال میں کہ وہ ظلم توڑے تھے اپنا جانوں پر فرشتوں نے انہیں کہا تم کس شغل میں تھے، (حضرت کرتے ہوئے) انہوں نے کہا ہم تو

مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً

بے بس تھے زمین میں، فرشتوں نے کہا کیا نہیں تھی اللہ کی زمین کشادہ

فَتَهَاجِرُوا فِيهَا قَالُوا لِيكَ مَا وَابَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۹۹

تاکہ تم ہجرت کرتے اس میں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے، اور جہنم بہت بری پلٹ کر آنے کی جگہ ہے،

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا

مگر واقعی کمزور و بے بس مرد اور عورتیں اور بچے جو نہیں

يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۱۰۰ قَالُوا لَكَ عَسَى

کر سکتے تھے (ہجرت کی) کوئی تدبیر اور نہیں جانتے تھے (دہاں سے نکلنے کا) کوئی راستہ، تو یہ لوگ ہیں جن کے

اللَّهُ أَنْ يَغْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۱۰۱ وَمَنْ يَهَاجِرْ

بارے میں امید کی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا ان سے، اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص ہجرت کرے گا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَأَرْضًا وَسِعَةً وَمَنْ

اللہ کی راہ میں پائے گا زمین میں پناہ کے لئے بہت جگہ اور کشادہ روزی اور جو شخص

يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ

نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف پھر آئے اس کو (راہ میں) موت

فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۱۰۲ وَإِذَا

تو ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اور جب

ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ

تم سفر کرو زمین میں تو نہیں تم پر کچھ حرج اگر تم قصر کرو

الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ

نماز میں اگر ڈرو تم اس بات سے کہ تمہیں پہنچائیں گے تمہیں کافر، بے شک کافر

كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝۱۱ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ

تو تمہارے کھلے دشمن ہیں - اور (اے حبیب!) جب آپ ان میں موجود ہوں اور قائم کریں آپ ان کے لئے نماز

فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا آسْلِحَتِهِمْ فَاذْأَسْجُدُوا

تو چاہئے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان سے آپ کے ساتھ اور وہ پکڑ رکھیں اپنے ہتھیار - پس جب سجدہ کر چکیں

فَلْيَكُونُوا مِنْ دُرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا

تو وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے اور آجائے دوسرا گروہ جس نے (ابھی) نماز نہیں پڑھی

فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَالَّذِينَ

پس (اب) وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ اور لئے رہیں اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار، تمنا کرتے ہیں

كَفَرُوا أَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ

کافر اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے اور اپنے ساز و سامان سے تو وہ ٹوٹ پڑیں تم پر

مَيْلَةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ قَطْرٍ

یک بارگی ، اور نہیں کوئی حرج تم پر اگر ہو تمہیں تکلیف بارش کی وجہ سے

أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ

یا ہو تم بیمار تو اتار دو اپنے ہتھیار ، مگر (دشمن کی نقل و حرکت سے) ہوشیار رہو، بے شک

اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝۱۲ فَاذْأَقْضِيَتْهُمُ الصَّلَاةَ

اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لئے عذاب رسوا کرنے والا - جب تم ادا کر چکو نماز

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا ۗ وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ

تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر (لیٹے ہوئے)، پھر جب مطمئن ہو جاؤ (دشمن کی طرف سے)

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا

تو ادا کرو نماز (حسب دستور) ، بے شک نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اپنے اپنے مقرر

مَوْقُوتًا ۝۱۳ وَلَا تَهْوَ فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ

وقت پر - اور نہ کمزوری دکھاؤ (دشمن) قوم کی تلاش میں ، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی

يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ

دکھ پہنچتا ہے جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے ، اور تم تو امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس (ثواب) کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے ، اور

اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمًا ۱۰۳ اِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ

اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بڑا دانا ہے۔ بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ تاکہ فیصلہ کریں آپ

بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۱۰۴

لوگوں میں اس کے مطابق جو دکھادیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اور نہ بنیے بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے اور

اسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۱۰۵ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ

مغفرت طلب کیجئے اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اور مت جھگڑیں آپ

الَّذِينَ يَخْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا

ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا اسے جو بڑا بد دیانت (اور)

أَثِيمًا ۱۰۶ لِيَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَ

بدکار ہے وہ چھپا سکتے ہیں (اپنے ارادے) لوگوں سے لیکن نہیں چھپا سکتے اللہ تعالیٰ سے اور

هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا

وہ تو (اس وقت بھی) ان کے ساتھ ہوتا ہے جب راتوں کو مشورہ کرتے ہیں ایسی باتوں کا جو پسند نہیں اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ

يَعْمَلُونَ فُحِيطًا ۱۰۸ هَآئِهِمْ هُوَ أَزْوَاجُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وہ کرتے ہیں اسے گھیرے ہوئے ہے۔ سنتے ہو! تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں۔

فَمَنْ يُجَادِلْ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ قَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۱۰۹

پس کون جھگڑے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت کے دن یا کون ہوگا (اس روز) ان کا دلیل۔

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْمِرْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ يَحِبَّ اللَّهُ

اور جو شخص کر بیٹھے برا کام یا ظلم کرے اپنے آپ پر پھر مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ سے تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو

غَفُورًا رَحِيمًا ۱۱۰ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ

بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا۔ اور جو کمائے گناہ کو تو وہ کما تا ہے اسے اپنے لئے،

وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمًا ۱۱۱ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ

اور اللہ تعالیٰ عليم (و) حکيم ہے۔ اور جو شخص کمائے کوئی خطا یا گناہ پھر

يَرْمِيهِ بِرِيءًا فَقَدْ آحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۱۱۲ وَلَوْ لَا فَضْلُ

تہمت لگائے اس سے کسی بے گناہ کو تو اس نے اٹھا لیا (بوجھ) بہتان کا اور کھلے گناہ کا۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل

اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضَلُّوكَ وَمَا

آپ پر اور اس کی رحمت تو تہیہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان سے کہ غلطی میں ڈال دیں آپ کو، اور نہیں

يُضَلُّونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ

غلطی میں ڈال رہے مگر اپنے آپ کو اور نہیں ضرر پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی، اور اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے

عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ

آپ پر کتاب اور حکمت اور سکھا دیا آپ کو جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے، اور

فَضَّلُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝۱۱۳ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا

اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ نہیں کوئی بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں بجز

مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ

ان لوگوں کے جو حکم دیں صدقہ دینے کا یا نیک کام کا یا صلح کرنے کا لوگوں میں، اور جو شخص کرے

يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝۱۱۴

یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا مندیاں حاصل کرنے کے لئے تو ہم عطا فرمائیں گے اسے اجر عظیم۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ

اور جو شخص مخالفت کرے (اللہ کے) رسول کی اس کے بعد کہ روشن ہو گئی اس کے لئے ہدایت کی راہ اور چلے

غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ

اس راہ پر جو الگ ہے مسلمانوں کی راہ سے تو ہم پھرنے دیں گے اسے جہنم اور خود پھرا ہے اور ڈال دیں گے اسے جہنم میں، اور یہ بہت بری

مَصِيرًا ۝۱۱۵ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ

پلٹنے کی جگہ ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں بخشا اس (جرم عظیم) کو کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ اور بخش دیتا ہے اس کے سوا جتنے جرائم ہوں

لِمَنْ يَشَاءُ ۝۱۱۶ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝۱۱۷

جس کے لئے چاہتا ہے، اور جو شریک ٹھہرائے (کسی کو) اللہ کے ساتھ تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور نکل گیا۔ نہیں

يَدْعُونَ مِنْ دُونِهَا أَلْهَاءَ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ۝۱۱۸

عبادت کرتے یہ مشرک اللہ کے سوا مگر دیویوں کی، اور نہیں عبادت کرتے مگر شیطان سرکش کی،

لَعْنَةُ اللَّهِ وَقَالَ لَا اتَّخَذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۝۱۱۹

لعنت کی ہے اس پر اللہ نے اور اس نے کہا تھا کہ میں ضرور لوں گا تیرے بندوں سے (اپنا) حصہ مقرر،

والسنة

۷۰۳۴

وقف اللام

وَلَا ضَلَّةَ لَهُمْ وَلَا مَيِّبَةً لَهُمْ وَلَا مَرْتَهَةً فَلَيبْتَكُنْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ

میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدوں میں رکھوں گا اور میں ضرور حکم دوں گا انہیں پس وہ ضرور چیریں گے جانوروں کے کان

وَلَا مَرْتَهَةً فَلَيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا

اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور بدل ڈالیں گے اللہ کی مخلوق کو، اور جو شخص بنا لے شیطان کو (اپنا) دوست

مَنْ دُونَ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خَسْرًا مُّبِينًا ۝۱۱۹ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ

اللہ کو چھوڑ کر تو نقصان اٹھایا اس نے کھانا نقصان۔ شیطان (جھوٹ) وعدے کرتا ہے انے اور (غلط) امیدیں دلاتا ہے انہیں

وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝۱۲۰ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا

اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر فریب کا۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ ہے اور نہ

يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ۝۱۲۱ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

پائیں گے اس سے بچ نکلنے کی جگہ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے

سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

داخل کریں گے ہم انہیں ان باغوں میں رواں ہیں جن کے نیچے ندیاں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے،

وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝۱۲۲ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ

(یہ) اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں (نجات کا انحصار) تمہاری جھوٹی امیدوں پر ہے

وَلَا آفَاتِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ

اور نہ اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر، (بلکہ) جو عمل کرے گارے اسے سزا ملے گی اس کی اور نہ پائے گا اپنے لئے

مِنْ دُونَ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝۱۲۳ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ

اللہ کے بغیر کوئی دوست اور نہ مددگار۔ اور جس نے عمل کئے اچھے

مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا

مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ مومن ہو سو وہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور نہ

يُظْلَمُونَ تَقِيرًا ۝۱۲۴ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ

ظلم کئے جائیں گے تل بھر۔ اور کون بہتر ہے دینی لحاظ سے اس شخص سے جس نے جھکا دیا ہو اپنا چہرہ اللہ کے لئے

وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ

اور وہ احسان کرنے والا ہو اور پیروی کی ملت ابراہیم کی اس حال میں کہ وہ ہر باطل سے منہ پھرتے ہوئے ہو، اور بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو

خَلِيلًا ۲۵) وَبِاللّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ

خلیل - اور اللہ کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ

بِكُلِّ شَيْءٍ فَحِيطًا ۲۶) وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ

ہر چیز کو گہرے میں لینے والا ہے۔ اور فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں، آپ فرمائیے: اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے

فِيهِنَّ ۲۷) وَمَا يَشٰلِيْ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِي نِيْمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا

ان کے بارے میں اور وہ آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں تم پر اس کتاب (قرآن) میں (ان میں احکام ہیں) ان یتیم بچوں کے متعلق جنہیں تم نہیں

تَوْتَوْنَهُنَّ مَا كَتَبَ لَهُنَّ وَتَدْرِعُونَ اَنْ تَنكُحُوهُنَّ وَ

دیتے ہو جو (حق) مقرر کیا گیا ہے ان کے لئے اور خواہش کرتے ہو کہ خود نکاح کر لو ان کے ساتھ (ان کا مال دبوچنے کے لئے) اور

الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوُلْدَانِ ۲۸) وَاَنْ تَقَوْمُوا اللَّيْثِيَّ بِالْقِسْطِ

(قرآن میں احکام ہیں) کمزور بچوں کے متعلق اور (وہ یہ) کہ قائم رہو یتیموں کے معاملہ میں انصاف سے،

وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ۲۹) وَاِنَّ امْرَاةً

اور جو کروگے بھلائی (کے کاموں) سے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر کوئی عورت

خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ

خوف کرے اپنے خاوند سے (اس کی) زیادتی یا روگردانی کی وجہ سے تو نہیں کوئی حرج ان دونوں پر کہ

يُصِلْحَا بَيْنَهُمَا صِلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۳۰) وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ

صلح کر لیں آپس میں، اور صلح ہی (دونوں کے لئے) بہتر ہے اور موجود رکھا گیا ہے نفسوں میں بخل،

وَاَنْ تَحْسَبُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۳۱) وَ

اور اگر تم احسان کرو اور متقی بنو تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اور

لَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا

تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ پورا پورا انصاف کرو اپنی بیویوں کے درمیان اگر چہ تم اس کے بڑے خواہشمند بھی ہو تو یہ نہ کرو کہ جھک جاؤ

كُلَّ السَّبِيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمَعْلَقَةِ ۳۲) وَاِنْ نَصَبْحُوا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ

(ایک بیوی کی طرف) بالکل اور چھوڑ دو دوسری کو جیسے وہ (درمیان میں) لٹک رہی ہو، اور اگر تم درست کر لو (اپنا رویہ) اور پرہیزگار بن جاؤ تو بے شک

اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۳۳) وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللّٰهُ كُلَّ مَنٍّ

اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے - اور اگر دونوں (میاں بیوی) جدا ہو جائیں تو غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ دونوں کو

سَعْتَهُ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۱۳۰ وَبِاللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

اپنی وسیع بخشش سے اور اللہ تعالیٰ وسیع بخشش والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ

الْأَرْضِ ۚ وَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ

زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے اور (حکم دیا)

أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

تمہیں بھی کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ

الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ۱۳۱ وَبِاللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا

زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ

فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۱۳۲ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ

زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کا رساز۔ اگر چاہے تو لے جائے تمہیں اے لوگو!

وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ قَدِيرًا ۱۳۳ مَنْ كَانَ

اور لے آئے دوسروں کو، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص

يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ

ارادہ رکھتا ہو صرف ثواب دنیا کا (تو یہ اس کی اپنی کم نظری ہے) اللہ کے پاس تو دنیا و آخرت (دونوں) کا ثواب ہے، اور

اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۱۳۴ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ

اللہ تعالیٰ ہر بات، سننے والا ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو! ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے انصاف پر

شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ

گواہی دینے والے محض اللہ کے لئے چاہے گواہی دینا پڑے تمہیں اپنے نفسوں کے خلاف یا اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف،

يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا ۚ قَالَ اللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ

(جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے) وہ دولت مند ہو یا فقیر پس اللہ زیادہ خیر خواہ ہے دونوں کا۔ تو نہ پیروی کرو خواہش نفس کی

تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا كَانَ بِمَاتِعْمُونَ خَيْرًا ۱۳۵

انصاف کرنے میں، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ موڑو تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

اے ایمان والو! ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو

نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ

نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ پر اور اس کتاب پر جو نازل کی اس سے پہلے ،

يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ

اور جو کفر کرے اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روزِ آخرت کے ساتھ تو وہ گمراہ ہوا

ضَلًّا بَعِيدًا ۱۳۶ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ

اور گمراہی میں دور نکل گیا - بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر

أَزْدَادُوا كُفْرًا تَمَكَّنَ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۱۳۷

بڑھتے گئے کفر میں نہیں ہے سنت الہی ان کے متعلق کہ بخش دے انہیں اور نہ (یہ) کہ پہنچائے انہیں راہ (راست) تک -

بَشِيرِ السُّفْقِينَ يَا أَلْهَمَ عَنَّا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ

خوشخبری سنا دو منافقوں کو کہ بلاشبہ ان کے لئے درد ناک عذاب ہے ، وہ منافق جو

الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْتَعُونَ عِنْدَهُمْ

بناتے ہیں کافروں کو (اپنا) دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر ، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس

الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۱۳۸ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ

عزت؟ تو (وہ سن لیں) عزت تو صرف اللہ کے لئے ہے سب کی سب - اور تحقیق اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر (یہ حکم) کتاب

أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا

میں کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کو کلاںکا کیا جا رہا ہے ہوان کا اور مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا تو مت بیٹھو

مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۱۳۹ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلَهُمْ إِنَّ

ان (کفر و استہزاء کرنے والوں) کے ساتھ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی دوسری بات میں ورنہ تم بھی انہیں کی طرح ہو گے ، بے شک

اللَّهُ جَامِعُ السُّفْقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۱۴۰ الَّذِينَ

اللہ تعالیٰ اکٹھا کرنے والا ہے سب منافقوں اور سب کافروں کو جہنم میں ، وہ جو

يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِنَ اللَّهِ قَالَوا أَلَمْ يَكُنْ

انتظار کر رہے ہیں تمہارے (انجام) کا ، تو اگر ہو جائے تمہیں فتنہ اللہ کی طرف سے (تو) کہتے ہیں: کیا نہیں تھے ہم بھی

مَعَكُمْ ۱۴۱ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ ۱۴۲ قَالَوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ

تمہارے ساتھ اور اگر ہو کافروں کے لئے کچھ حصہ (کامیابی سے) کہتے ہیں: کیا نہیں غالب آگئے ہم تم پر

وَسَنَعَمُ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ

اور (اس کے باوجود) کیا نہیں بچایا تھا ہم نے تم کو مومنوں سے، پس (اے اہل نفاق!) اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، اور

لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۚ

ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لئے مسلمانوں پر (غالب آنے کا) راستہ - بیشک

الْمُتَّقِينَ يُخَدَعُونَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى

منافق (اپنے گمان میں) دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور اللہ تعالیٰ سزا دینے والے نہیں (اس دھوکہ بازی کی) اور جب کھڑے ہوتے ہیں

الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ

نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں کابل بن کر (وہ بھی مہادت کی نیت سے نہیں بلکہ) لوگوں کو دکھانے کے لئے اور نہیں ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا

إِلَّا قَلِيلًا ۗ مِّنْ بَدِيبِنَ بَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ ۗ لَآ إِلَىٰ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ

مگر تھوڑی دیر، ڈانواں ڈول ہو رہے ہیں کفر و ایمان کے درمیان نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے،

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۚ

اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لئے ہدایت کا راستہ - اے ایمان والو!

لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أَثْرِيدُونَ

نہ بناؤ کافروں کو اپنا دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر کیا تم ارادہ کرتے ہو

أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ۚ

کہ بنا دو اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے خلاف واضح دلیل - بے شک منافق سب سے نچلے طبقہ میں

الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَهُمْ نَصِيرًا ۚ

ہوں گے دوزخ (کے طبقوں) سے، اور ہرگز نہ پائے گا تو ان کا کوئی مددگار، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور

أَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ فَعَلَ

اپنی اصلاح کر لی اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کا (دامن رحمت) اور خالص کر لیا اپنا دین اللہ کے لئے تو یہ لوگ ایمان والوں

الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۚ

کے ساتھ ہیں، اور عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم - کیا کرے گا

اللَّهُ بَعْدَ إِكْرَامِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۚ

اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرنے لگو اور ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ بڑا قادر دان ہے سب کچھ جاننے والا ہے -